



## 6652 - ( ان الله يحب الجمال ) کا معنی کیا ہے

سوال

حدیث ( ان الله يحب الجمال ) کا معنی کیا ہے ، اور خاص طور پر جمال سے کیا مراد ہے ؟  
بعض لوگ اس حدیث سے خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھنے اور خوبصورت چیز سے نفع حاصل کرنے پر استدلال کرتے ہیں، تو کیا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

سوال میں مذکورہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ، تو ایک شخص کہنے لگا آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جو تیر اچھے ہوں ، تونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے ، تکبریہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور اپنے آپ کو اونچا سمجھا جائے ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 131 ) -

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :

حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ( بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے ) کپڑوں کی خوبصورتی کے متعلق حدیث میں سوال کیا گیا ہے تو یہ جملہ اسے اور اسی طرح پرجیز کی خوبصورتی کو شامل ہے -

اور صحیح مسلم میں ہی حدیث نمبر ( 1686 ) میں ہے کہ ( اللہ تعالیٰ طیب پاک صاف ہے صاف ستھری چیز ہی قبول کرتا ہے )

اور سنن ترمذی میں ہے کہ ( بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے ) سنن ترمذی حدیث نمبر ( 2963 ) امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے -

ابوالاحوص جسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہٹے پرانے لباس میں دیکھا تو فرمانے لگے کیا تیرے پاس کوئی مال ہے تو میں نے جواب دیا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا مال ہے ؟ تو میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ بکریاں وغیرہ دیں ہیں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اظہار ہونا چاہیے - مسند احمد حدیث نمبر ( 15323 ) سنن ترمذی حدیث نمبر ( 1929 ) سنن نسائی حدیث نمبر ( 5128 ) -

توالله سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی کی ہوئی نعمت کا اثر نظر آئے کیونکہ یہ اس جمال اور خوبصورتی میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور پھر یہ باطنی طور پر بھی یہ جمال اور خوبصورتی ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، تو اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ظاہری جمال اور خوبصورتی نعمت کے ساتھ ہوا و رباطنی جمال اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کر کے ہو۔

اور اللہ تعالیٰ نے جمال و خوبصورتی سے اپنی محبت اور پسندیدگی کی بنا پر ہی اپنے بندوں پر لباس وزینت کا نزول فرمایا جس سے وہ اپنے ظاہر کو خوبصورت اور تقویٰ سے اپنے باطن کو خوبصورت بناتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے :

اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا جو تمہاری شرمگاہیوں کو چھپاتا اور موجب زینت بھی ہے اور تقوے کا لباس اس سے بڑھ کر ہے الاعراف ( 26 ) -

اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارہ میں فرمایا :

اور انہیں تازگے اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبرکر بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا الھر ( 11 - 12 )

تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو تروتازگی اور باطن کو خوشی اور سرور اور ان کے جسموں اور بدنوں کو ریشم سے جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ جس طرح اقوال و افعال اور لباس اور شکل و صورت میں خوبصورتی و جمال کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح وہ قبیح اور برمی افعال و اقوال اور لباس و شکل سے بعض اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبیح قسم کے لوگوں اور قباحت سے بعض اور جمال و خوبصورتی اور اسے پسند کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

تواس موضع میں اب دوگروہ بن چکے ہیں :

ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ سب خوبصورت ہے، تو واللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جسے اس نے پیدا فرمایا تو ہم اس کی ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے بھی

بغض نہیں رکھتے ،

ان کا کہنا ہے کہ : جس نے بھی اس ناحیہ سے کائنات کو دیکھا تو وہ اسے خوبصورت ہی دیکھے گا ۔

اور ان لوگوں کے دلوں سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہی ختم ہو چکی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کسی سے دشمنی کرنا اور برائے کو دیکھ کر اسے روکنا بھی ان کے دلوں سے ناپید ہو چکا ہے ، اور اسی طرح جہاد اور حدود اللہ کا قیام بھی نہیں پایا جاتا ۔

اور یہ گروہ عورتوں اور مردوں کی خوبصورتی کو بھی وہ خوبصورتی بنا بیٹھے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ، تو یہ اپنے فسق کی بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ، اور بعض نے اس حد تک غلوکرلیا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا معبد ان صورتوں میں ظاہر ہوتا اور ان میں حلول کر جاتا ہے ۔

اور ان کے مقابلہ میں دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل شکلؤں والوں اور مکمل اور تمام الخلق رکھنے والوں کی مذمت کی ہے ، تو منافقوں کے باوہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

**اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم خوشنما معلوم ہونگے المنافقون ( 4 ) ۔**

اور اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے :

ہم تو ان سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو غارت کرچکے ہیں جو سازو سامان اور مناظر میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں مریم ( 74 ) - یعنی مال اور منظر کے اعتبار سے خوشنما تھیں ۔

اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا گیا ہے کہ : ( بلاشبہ اللہ تعالیٰ صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 4651 ) ۔

اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے :

( سادگی ایمان کا حصہ ہے ) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ( 4108 ) سنن ابو داود حدیث نمبر ( 3630 ) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ۔

تو اس نزاع کا فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح کہنا چاہیے :

شكل و صورت اور لباس میں جمال و خوبصورتی کی تین اقسام ہیں ، ایک قسم تو محمد ہے اور دوسری مذموم اور تیسری نہ م Hammond اور نہ ہی مذموم ۔



وہ جمال اور خوبصورتی جو قابل ستائش ہے : وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی اطاعت میں مدد و معاون اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ و قبول کرنے کے لیے ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فود کے استقبال کے لیے جمال و خوبصورتی اختیار کیا کرتے تھے ، اس کی نظیر لڑائی اور جنگ میں لڑائی کے لیے آلات حرب پہننا اور جنگ میں ریشمی کپڑے پہننے اور اس میں تکبر کرنا یہ اس وقت محمود اور قابل ستائش ہوگا جب یہ اعلاء کلمة اللہ اور دین اسلام کی نصرت اور دشمنان اسلام کے غیظ غصب کے لیے ہو -

جمال مذموم : وہ جمال اور خوبصورتی مذموم ہوگی جو دنیا اور ریاست و سرداری کے حصول اور فخر و تکبر اور شہوات کا وسیلہ ہو اور بندے کا مقصد اور غایت خوبصورتی و جمال بن جائے ، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہی چیز پائی جاتی ہے اور ان کی بھی تمنا ہوتی ہے -

اور وہ خوبصورتی و جمال نہ تو محمد اور نہ ہی مذموم ہوگی جس میں مندرجہ بالا مقاصد اور اوصاف نہ پائے جائیں -

مقصد یہ کہ حدیث دو عظیم اصول پر مشتمل ہے ایک تو معرفت اور دوسرا سلوک ہے -

توالله تعالیٰ کی معرفت اس جمال و خوبصورتی سے ہوگی جس کی مثل کوئی بھی نہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس حسن و جمال سے ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور وہ اقوال و اعمال اور اخلاق کا جمال و خوبصورتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ، توالله تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پرواجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو سچ اور دل کو اخلاص اور محبت اور اطاعت اور توکل کے زیور سے حسین جمیل اور خوبصورت بنائے -

اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور اپنے بدن کو لباس پہن کراس کی نعمتوں کا ظاہر کر کے اور اسے نجاست اور میل کچیل اور گندے بالوں سے پاک صاف کر کر اور ختنہ کروا کر اور ناخن کاٹ کر خوبصورت اور جنسین جمیل بنائے -

توالله تعالیٰ کو اس کے وصف جمال سے پہچانے اور اس کی عبادت بھی جمال اور خوبصورتی کے ساتھ کرے جو کہ اس کی شرع اور دین ہے ، تو اس حدیث نے دو عظیم قاعدے معرفت اور سلوک جمع کر دیے ہیں - الفوائد ( 1 / 185 ) -

کہاں اس حدیث کے عظیم معانی اور کہاں خواہشات کے پیروکاروں کی گمراہی و ضلالت جو کہ اپنے برے اور غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے منحرف قسم کی سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں اور اس حدیث سے سمجھتے ہیں -

ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسائے ، آمين یارب العالمین -

والله تعالیٰ اعلم .